



### کووڈ-19 کی عالمی وباء کے دوران برامپٹن میں موسم بہار

برامپٹن، آن (30 اپریل 2020) – موسم گرما کی آمد کے ساتھ، سٹی آف برامپٹن رہائشیوں کو کورونا وائرس (کووڈ-19) کی عالمی وباء کے دوران جسمانی فاصلہ بندی کی اہمیت کے متعلق یاد دہانی کروانا چاہتا ہے۔ کمیونٹی میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد دینے کے لیے، رہائشیوں سے درج ذیل قواعد کی پابندی کی درخواست کی جاتی ہے۔ جسمانی فاصلہ نہ رکھنے والے افراد پر ہر بار خلاف ورزی کی صورت میں **برامپٹن کووڈ-19 ایمرجنسی مژرز ہائی لاء** یا ایمرجنسی منیجمنٹ اینڈ سول پروٹیکشن ایکٹ (EMCPA) کے تحت کم از کم 500\$ اور زیادہ سے زیادہ 100,000\$ تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکے گا۔

#### موسم بہار کی صفائی اور گیراج سیلز

سال کے اس وقت میں، ہو سکتا ہے کہ رہائشی ممکنہ طور پر بہار کی صفائی کا فائدہ اٹھانے کے لیے گیراج سیلز لگانے یا ان میں شرکت کرنے کے خواہشمند ہوں۔ EMCPA کے تحت قواعد کی پابندی کے لیے، عوام کو صحت اور حفاظت کے خطرے کی وجہ سے گیراج سیلز کی اجازت نہیں ہے۔ ان میں استعمال شدہ چیزوں کو چھونا اور ان کا استعمال شامل ہوتا ہے اور یہ سطحوں کے ذریعے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا ایک غیر ضروری موقع پیدا کرتی ہیں۔ گیراج سیلز کو ایک غیر بنیادی کاروبار سمجھا جاتا ہے اور یہ عوامی اجتماعات اور قریبی جسمانی فاصلے کو فروغ دیتی ہیں۔ اگر کسی گیراج سیل کے بارے میں اطلاع موصول ہوئی، تو قانون نافذ کرنے والا عملہ خلاف ورزی پر کارروائی کرے گا، جس کے نتیجے میں جرمانہ ہو گا۔

20 اپریل سے، ہر گھرانہ اپنے کوڑا اٹھانے جانے کے دن پر گاربیج ٹیگز کے بغیر اپنے گھر کے باہر کوڑے کے دو اضافی بیگ رکھ سکتا ہے۔ اضافی کوڑے کو بیگز کے اندر ڈالا جانا چاہیے۔ ڈبوں اور کینز کو نہیں اٹھایا جائے گا۔

براہ کرم نوٹ کریں کہ کوڑا جمع کرنے کا عملہ زیادہ سے زیادہ دو اضافی بیگ اٹھائے گا۔ جن رہائشیوں نے بیگ ٹیگز خریدے ہوئے ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ تاحکم ثانی انہیں اپنے پاس رکھیں۔

رہائشیوں کو یہ بھی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ بہاریں چیزیں، جو بن یا کوڑے کے بیگ میں نہیں آتیں، انہیں درج ذیل جگہوں سے نہیں اٹھایا جائے گا:

- گھر کے باہر سے؛
- اپارٹمنٹس/کنڈومینمز میں سے؛ یا
- کمیونٹی ریسائیکلنگ سنٹر (CRCs) پر قبول کیے جائیں گے۔

رہائشیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ دستانوں، ماسکس اور **گھر میں نگہداشت صحت کی دیگر فاضل اشیاء** کو کوڑے میں تلف کریں، نہ کہ ریسائیکلنگ میں۔

رہائشیوں سے یہ بھی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ پورے پیل میں بڑی تعداد میں موجود ڈائیبیٹیز کینیڈا بنز (Diabetes Canada bins) یا خیراتی تنظیموں کی عطیات چھوڑنے کی دیگر بنز پر کوئی بھی عطیہ نہ چھوڑیں، کیونکہ انہیں جمع نہیں کیا جائے گا۔ معطل شدہ وصولی کا اطلاق پیل کی CRCs پر بھی ہوتا ہے۔

اگر یہ انتہائی ضروری ہو کہ رہائشیوں کو چیزوں کو تلف کرنے کے لیے فوراً اپنے گھروں سے نکلنا ہو، تو کچرے کو CRCs پر چھوڑا جا سکتا ہے، جہاں فاضل اشیاء تلف کرنے کی فیسوں کو تاحکم ثانی معاف کر دیا گیا ہے۔

پیل CRCs موجودہ طور پر الیکٹرانکس، ٹائرز، بڑے آلات (مثلاً چولہے، فریج یا ڈش واشرز) یا بہاری چیزیں قبول نہیں کر رہیں۔

کمیونٹی اور عملے کی حفاظت کے لیے، CRCs میں خدمات محدود ہیں اور رہائشیوں کو معمول کی نسبت انتظار کے زیادہ وقت کی توقع کرنی چاہیے۔



رہائشیوں کی اوقات کار اور قابل قبول اشیاء کے متعلق تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے [peelregion.ca/waste/community-recycling-centres](http://peelregion.ca/waste/community-recycling-centres) کو ملاحظہ کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

### پارکس اور چیری بلاسمز دیکھنا

رہائشیوں کو یاددہانی کروائی جاتی ہے، کہ انہیں سٹی کی درج ذیل املاک میں سے کسی کو بھی استعمال کرنے کی ممانعت کی گئی ہے:

- کھیلوں کے میدان اور پارکوں میں موجود ہر قسم کی سہولتیں؛
- کتوں کے لیے پٹے وغیرہ کے بغیر گھومنے کے لیے پارکس؛
- پکنک شیلٹرز؛
- آؤٹ ڈور سپورٹس کی سہولت گاہیں اور آؤٹ ڈور فٹنیس کے آلات بشمول کھیلوں کے میدان، باسکٹ بال اور ٹینس کورٹس وغیرہ؛
- تفریحی مراکز اور ان کے ارد گرد کے مقامات؛ اور
- پارکنگ لائٹس۔

چیری بلاسم کے اس موسم میں، رہائشیوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ براہ کرم انہیں دیکھنے کے لیے دوستوں اور خاندان کے ساتھ جمع نہ ہوں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے تمام پارکس بند رہیں گے اور جسمانی فاصلہ بندی کے اقدامات مؤثر رہیں گے۔ سٹی رہائشیوں کو اپنے گھروں سے لطف اندوز ہونے کے قابل بنانے کے لیے جلد ہی میں چیری بلاسمز کی فوٹیج شیئر کرے گا۔

### بیک یارڈ گارڈن پروگرام

چونکہ جسمانی فاصلہ بندی کے اقدامات زیر نفاذ ہیں، سٹی کا بیک یارڈ گارڈن پروگرام رہائشیوں کی اپنے گھر میں آرام سے فصلیں اور جڑی بوٹیاں اگانے اور انہیں مقامی فوڈ بینکس اور کمیونٹی تنظیموں کو عطیہ کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ تمام ضرورت مند افراد میں خوراک برابر تقسیم ہو، فوڈ بینکس اور تنظیموں کی جانب سے مکمل کیے جانے کے لیے ایک درخواست فارم فراہم کیا جائے گا۔

رہائشی [BramptonGreenCity@brampton.ca](mailto:BramptonGreenCity@brampton.ca) پر ای میل کر کے مفت اشیاء ضرورت (مٹی اور بیج) کی درخواست کر سکتے ہیں۔ سٹی گارڈنز کی دیکھ بھال کے حوالے سے [www.brampton.ca/parks](http://www.brampton.ca/parks) پر ٹیوٹوریل اور مشورے بھی شیئر کرتا ہے۔

نئے درخواست دہندگان کو انتظار کی ایک فہرست میں شامل کیا جائے گا۔ ایسے کاروبار، جو کمیونٹی کے لیے بیج اور مٹی عطیہ کر سکتے ہیں، ان سے [bramptongreencity@brampton.ca](mailto:bramptongreencity@brampton.ca) پر ای میل کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔

میئر پیٹرک براؤن باغبانی کے ماہر فرینک فیراجین "فرینکی فلاورز" اور بیک یارڈ گارڈن پروگرام کے چیئر اور سٹی کونسلر ڈوگ وبلینز، وارڈز 2 اور 6 کے ساتھ مورخہ 4 مئی کو دن 3:30 پر ایک انسٹاگرام لائیو چیٹ (@patrickbrownont) بھی منعقد کر رہے ہیں۔ رہائشیوں کو بیک یارڈ گارڈن پروگرام کے متعلق مزید جاننے، باغبانی کے مشورے حاصل کرنے اور مزید معلومات کے لیے چیٹ میں شامل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے۔

### گھر پر تفریح

چونکہ سٹی آف برامپٹن کی تمام تفریحی سہولت گاہیں تاحکم ثانی بند ہیں، برامپٹن ریکریٹیشن نے ریکریٹیشن ایٹ ہوم کا آغاز کر دیا ہے، جو ایک ورچوئل پروگرامنگ ہب ہے، جس میں برامپٹن کے رہائشیوں کو فعال، محظوظ اور مشغول رکھنے کے لیے کئی ویڈیو اور پرنٹ ہونے والے ٹیوٹوریل موجود ہیں۔ تمام عمر اور دلچسپیوں کے حامل گروہوں کے لیے تین شعبہ جات میں ڈیجیٹل وسائل دستیاب ہیں: یعنی ورچوئل فٹنس، ایڈوینچرز ایٹ ہوم ان آرٹس اینڈ کرافٹس اور سینئرز ڈیجیٹل کیفے۔ سرگرمیوں کے لیے [www.brampton.ca/recreation](http://www.brampton.ca/recreation) ملاحظہ فرمائیں۔ نیا مواد ہر ہفتے شامل کیا جائے گا۔

کووڈ-19 کے خلاف ردعمل میں کمیونٹی کو معاونت فراہم کرنے کی سٹی کی کوششوں کے متعلق مزید معلومات کے لیے [www.brampton.ca/COVID19](http://www.brampton.ca/COVID19) ملاحظہ کریں یا @CityBrampton کو ٹوئٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔



30--

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)